

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the Nation



قائد اعظم ٹرافی سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا روز مکمل

لاہور، 21 ستمبر 2019ء:

ڈرننگ اسٹیڈیم بہالپور میں جاری میچ میں بلوچستان کو جیت کے لیے مزید 205 رنز اور سدرن پنجاب کو 10 وکٹیں درکار ہیں۔ میچ کے دوسرے روز 219 رنز کے تعاقب میں بلوچستان نے 18 رنز 2 کھلاڑی اوٹ سے اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تو اس کی پوری ٹیم 109 رنز بنا کر اوٹ ہو گئی۔ بلوچستان کے صرف 4 بیٹسمین ڈبل فگر میں داخل ہوسکے پہلے راؤنڈ میں 10 کھلاڑیوں کو اوٹ کرنے والے سدرن پنجاب کے مینٹور ذوالفقار بابر نے دوسرے راؤنڈ کی پہلی اننگز میں بھی 6 شکار کیے۔ ذوالفقار بابر نے 18 اوورز میں 45 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کیں۔ بلوچستان کی جانب سے محمد جنید نے سب سے زیادہ 29 رنز اسکور کیے۔ دوسری اننگز میں سدرن پنجاب کی بیٹنگ لائن اپ بھی بہتر کھیل کا مظاہرہ نہ کرسکی اور پوری ٹیم 101 رنز بنا کر اوٹ ہو گئی۔ سلمان علی آغا نے سب سے زیادہ 25 رنز اسکور کیے۔ بلوچستان کی جانب سے جلات خان نے 6 جبکہ اختر شاہ اور محمد جنید نے 2، 2 کھلاڑیوں کو اوٹ کیا۔ سدرن پنجاب کی دوسری اننگز میں مجموعی طور پر 210 رنز کی برتری کے تعاقب میں بلوچستان کرکٹ ٹیم نے دن کے اختتام تک 3 اوورز میں 5 رنز بنالیے اور اس کے دونوں اوپنرز کریز پر موجود ہیں۔ بلوچستان کی جانب سے اسامہ رزاق 4 اور شہزاد ترین 0 اسکور سے میچ کے آخری روز بیٹنگ کا آغاز کریں گے۔

نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ کے دوسرے روز مہمان ٹیم کا پلڑا بھاری رہا۔ خیبر پختونخوا کو میچ میں مجموعی طور پر 389 رنز کی برتری حاصل ہو چکی ہے اور اس کی ابھی 4 وکٹیں باقی ہیں۔ اس سے قبل سندھ نے 11 رنز 2 کھلاڑی اوٹ سے دن کا آغاز کیا تو خیبر پختونخوا کی باؤلنگ لائن اپ کے سامنے میزبان ٹیم کا کوئی کھلاڑی بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکا۔ سیف اللہ بنگش نے سب سے زیادہ 36 رنز بنائے۔ سندھ کی پوری ٹیم 138 رنز بنا کر اوٹ

ہوگئی۔ خالد عثمان نے 4 اور آصف آفریدی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ادھر خبیر پختونخوا کی جانب سے اوپنر اعتزاز حبیب خان نے دوسری اننگز میں 71 رنز اسکور کیے۔ ان کی اننگز میں 5 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ دن کے اختتام کے تک میزبان ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنالیے ہیں۔

میر پور آزاد جموں و کشمیر میں سنٹرل پنجاب اور ناردرن کرکٹ ٹیموں کے درمیان بارش سے متاثرہ میچ ڈرا کی جانب گامزن ہے۔ میزبان ٹیم نے 86 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے دوسرے روز اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تو مڈل آرڈر بیٹسمین شعیب احمد کے ناقابل شکست 106 رنز کی بدولت ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 299 رنز بنائے تھے کہ کپتان فیضان ریاض نے اننگز ڈکلیئر کر دی۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے محمد علی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دن کے اختتام تک سنٹرل پنجاب نے پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 103 رنز بنائے۔ علی زریاب 34 اور علی وقاص 18 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ ناردرن کی جانب سے دونوں کھلاڑیوں کو سلمان ارشاد نے آؤٹ کیا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk